



سوال

(247) والد کی جائیداد کی منقولہ اور غیر منقولہ تقسیم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

علی اکبر بزرگیہ ای میل سوال کرتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں۔ پسماندگان میں ہم دو بھائی چار بہنیں اور ہماری والدہ ہیں۔ والد کی جائیداد کی منقولہ اور غیر منقولہ کیسے تقسیم ہوگی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

تجہیز و تکفین پر اٹھنے والے اخراجات قرض کی ادائیگی اور وصیت کے اجراء کے بعد باقی جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی کہ ان کی بیوی کو ایک بٹہ آٹھ حصہ یا جانے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "اگر تماری اولاد سے تو بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا۔" (4/النساء: 12)

بیوی کو آٹھواں حصہ دینے کے بعد باقی 8/7 اس طرح تقسیم ہوگی کہ ہر بیٹی کو بیٹی سے دو گنا حصہ ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد سے کے متعلق حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔" (4/النساء: 11)

سہولت کے پیش نظر کل جائیداد کے 64 حصے کیلئے جائیں۔ ان میں 8/1 یعنی آٹھ حصے مرحوم کی بیوی کو پھر 14'14 حصے فی لڑکا اور 7'7 فی لڑکی کو دینے جائیں۔ میت (8/64) = بیوی (8) - بیٹا (14) بیٹا (14) بیٹی (7) - بیٹی (7) بیٹی (7) - بیٹی (7) = 64

حذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



جلد: 1 صفحہ: 281